

# Indian assistance to Mauritius to deal with the environmental crisis due to oil spill

August 16, 2020

تیل کی رساو کی وجہ سے ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لئے موریشیس کو ہندوستان کی مدد

16 اگست، 2020

جنوب مشرقی ساحل پر تیل کی رساو کے باعث ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لئے موریشیس کی حکومت کی درخواست کے جواب میں، حکومت ہند نے موریشیس میں جاری تیل کے رساو کو روکنے اور بچانے کے کاموں میں مدد فراہم کرنے کے لئے ایک آئی اے ایف ہوائی جہاز کے ذریعہ 30 ٹن سے زیادہ تکنیکی سامان اور مواد موریشیس کے لئے روانہ کیا ہے۔

سمندری بومز، ریور بومز، ڈسک اسکیمرز، ہیلی اسکیمرز، پاور پیک، بلوئرز، سیلویج بیج اور آئل جاذب گرافین پیڈ اور دیگر لوازمات پر مشتمل یہ خصوصی سامان خاص طور پر آئل سلیک کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعہ پانی سے تیل کو اسکیم کیا جاتا ہے، اور یہ صفائی اور بچاؤ کے کام میں مدد کرتا ہے۔

ایک 10 رکنی ٹیکنیکل رسپانس ٹیم، جس میں انڈین کوسٹ گارڈ (آئی سی جی) کے اہلکار شامل ہیں جو تیل کے رساو سے نمٹنے کے طریقہ کار سے خصوصی طور پر تربیت یافتہ ہیں، کو بھی جائے وقوع پر ضروری تکنیکی اور آپریشنل امداد میں توسیع کے لئے موریشیس میں تعینات کیا گیا ہے۔

ہندوستان کی امداد بحر ہند کے خطے میں اپنے پڑوسیوں کے لئے انسانی امداد اور تباہی سے متعلق امداد کو بڑھانے کی پالیسی کے مطابق ہے، جس کی بنیاد وزیر اعظم کے SAGAR (خطے میں سب کی حفاظت اور نمو) وژن پر ہے۔ فوری امداد ہندوستان اور موریشیس کے مابین دوستی کے قریبی رشتوں کی عکاسی کرتی ہے، اور موریشیس کے لوگوں کی ضرورت کے وقت مدد کے لئے ہندوستان کے عزم کی بھی عکاسی کرتی ہے۔

ہندوستان کی یہ امداد، کووڈ-19 وبائی مرض سے لڑنے کے لئے موریشیس کو فراہم کردہ اس حالیہ سپورٹ کے بعد عمل میں آیا ہے جس میں ضروری ادویات کی فراہمی، ایورویڈک دوائیوں کی ایک خاص کھیپ کے ساتھ ساتھ ایک طبی امدادی ٹیم بھی شامل تھی جسے مشن 'ساگر' کے حصے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔

نئی دہلی

16 اگست، 2020

